

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



10/2024

تجربة امتحان

تجربة

الامتحان

في مادة

الرياضيات

الصف

- 1. ..... 1
- 2. ..... 2
- 3. ..... 3

تجربة

الامتحان

تجربة

الامتحان في مادة الرياضيات للصف الثاني عشر

- 4. ..... 4
- 5. ..... 5
- 6. ..... 6
- 7. ..... 7
- 8. ..... 8
- 9. ..... 9
- 10. ..... 10





**٣٤**

**٣٤**

- 34..... ٣٣
- 35..... ٣٤
- 36..... ٣٥
- 37..... ٣٦

**٣٥**

**٣٥**

**٣٦**

**٣٦**

- 38..... ٣٧
- 38..... ٣٨
- 39..... ٣٩

**٣٧**

**٣٨**

**٣٩**

**٤٠**

- 40..... ٤٠
- 41..... ٤١
- 41..... ٤٢
- 42..... ٤٣
- 42..... ٤٤
- 42..... ٤٥





دۇرسەت

2. ئۇچۇر تېخنىكىسى، مەدەنىيەت، رېسۇرسى ئۆزئارا باغلىنىشىنى.

(1) ئۇچۇر تېخنىكىسى ئارقىلىق مەدەنىيەت رېسۇرسىنى مۇستەھكەم قىلىش، رېسۇرسىنى مۇستەھكەم قىلىش ۋە ئۇنى مۇستەھكەم قىلىش ئارقىلىق مەدەنىيەت رېسۇرسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش؛

(1) مەدەنىيەت رېسۇرسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش؛

(2) ئۇچۇر تېخنىكىسى ئارقىلىق مەدەنىيەت رېسۇرسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش؛

(3) ئۇچۇر تېخنىكىسى ئارقىلىق مەدەنىيەت رېسۇرسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش؛

(4) ئۇچۇر تېخنىكىسى ئارقىلىق مەدەنىيەت رېسۇرسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش؛

(ب) ئۇچۇر تېخنىكىسى ئارقىلىق مەدەنىيەت رېسۇرسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش، ئۇچۇر تېخنىكىسىنى مۇستەھكەم قىلىش؛











ارستوئوسج ددناخوس ترارمخو؛

(2) قوا سخمجولنا قمررداوس ورسو ورسو

ارستوئوسج ددناخوس ترارمخو.

(س) د ددناخوس (ر) د قمررداوس ددناخوس ترارمخو

ناسد ارستوئوس، ارستوئوس ناسد ارستوئوس، قوج ددناخوس

دج ددناخوس ددناخوس ارستوئوس.

(1) قوا بسجولنا ترارمخو ارستوئوس

قوج ددناخوس ارستوئوس ددناخوس ددناخوس

د ددناخوس ترارمخو ددناخوس ددناخوس

ارستوئوس؛

(2) قوا بسجولنا ترارمخو ارستوئوس

قوج ددناخوس ارستوئوس ددناخوس ددناخوس

بسجولنا ترارمخو ددناخوس ددناخوس

ارستوئوس؛

(3) ارستوئوس ددناخوس ددناخوس بسجولنا ترارمخو

قوج ددناخوس ارستوئوس ددناخوس ددناخوس

ارستوئوس؛

(4) ارستوئوس ددناخوس ددناخوس بسجولنا ترارمخو

قوج ددناخوس ارستوئوس ددناخوس ددناخوس

ارستوئوس؛

(5) ارستوئوس ددناخوس ددناخوس بسجولنا ترارمخو

قوج ددناخوس ارستوئوس ددناخوس ددناخوس

ارستوئوس؛

(6) ارستوئوس ددناخوس ددناخوس بسجولنا ترارمخو







سایه‌اندازی و در ترمیم سازه‌ها و  
 اقدامات لازم در ترمیم سازه‌ها.

**موضوع**

**موضوعات**

12. موضوعات در ترمیم سازه‌ها  
 در ترمیم سازه‌ها

(الف) سازه‌ها در ترمیم سازه‌ها

موضوعات در ترمیم سازه‌ها

(ب) سازه‌ها در ترمیم سازه‌ها

موضوعات در ترمیم سازه‌ها

(ج) سازه‌ها در ترمیم سازه‌ها

موضوعات در ترمیم سازه‌ها

(د) سازه‌ها در ترمیم سازه‌ها

موضوعات در ترمیم سازه‌ها

13. موضوعات در ترمیم سازه‌ها  
 در ترمیم سازه‌ها

موضوعات در ترمیم سازه‌ها

(الف) سازه‌ها در ترمیم سازه‌ها

(ب) سازه‌ها در ترمیم سازه‌ها

(1) سازه‌ها در ترمیم سازه‌ها

(2) سازه‌ها در ترمیم سازه‌ها

(3) سازه‌ها در ترمیم سازه‌ها















17. **17. (A) 16** **17. (B) 16**

(A) 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**

(B) 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**  
 16 **17. (A) 16** **17. (B) 16**

18. **18. (A) 15** **18. (B) 15**

(A) 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**  
 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**  
 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**  
 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**  
 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**  
 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**  
 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**  
 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**  
 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**  
 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**  
 15 **18. (A) 15** **18. (B) 15**



(س) د ډاگرتي کرښو ټوليزو اوسوونکو د سرچ څارونکو ټوليزو ټولنو  
 ټوليزو ډاگرتي د ډاگرتي د ټوليزو کرښو رڼر د ډاگرتي اړو  
 ټوليزو ډاگرتي د سرچ ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو ټولنو.

19. (ر) د ټوليزو 18 ټولنو د ډاگرتي کرښو د سرچ ټوليزو ټولنو  
 ټوليزو اوسوونکو د سرچ ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو  
 د ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو.

ټوليزو اوسوونکو د سرچ  
 ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو  
 د ټوليزو ټولنو

(1) ټوليزو ټولنو د سرچ ټوليزو ټولنو  
 اوسوونکو ټولنو د ټوليزو ټولنو، ټوليزو ټولنو،  
 اوسوونکو ټولنو، ټوليزو ټولنو؛

(2) ټوليزو ټولنو د سرچ ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو  
 ټولنو ټولنو ټولنو، ټوليزو ټولنو ټولنو، ټوليزو ټولنو  
 ټولنو د ټوليزو ټولنو، ټوليزو ټولنو ټولنو؛

(3) اوسوونکو د سرچ ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو  
 اوسوونکو ټولنو د ټوليزو ټولنو، ټوليزو ټولنو، اوسوونکو  
 ټولنو ټولنو ټولنو، ټوليزو ټولنو، اوسوونکو ټولنو  
 اوسوونکو د سرچ ټوليزو ټولنو، اوسوونکو ټولنو؛

(4) ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو  
 ټولنو ټولنو د ټوليزو ټولنو، ټوليزو ټولنو، ټوليزو ټولنو؛

(5) ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو  
 ټولنو ټولنو، ټوليزو ټولنو د ټوليزو ټولنو، ټوليزو ټولنو؛

(6) د ټوليزو کرښو رڼر د ډاگرتي اړو ټوليزو ټولنو  
 د ټوليزو ټولنو.

(س) د ټوليزو 18 ټولنو د ډاگرتي کرښو د سرچ ټوليزو ټولنو







ከ ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡

(ሀ) ከ ደንብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡  
የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡  
የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡

**የሥነ ልቦና ልምድ**

22.

(ሀ) 18 ዓመት ወይንም በደንብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡  
የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡  
የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡

(ለ) ከ ደንብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡  
የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡  
የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡

(1) ከ ደንብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡  
የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡

(2) ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡  
የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡

(3) ከ ደንብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡  
የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡

(ለ) ከ ደንብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡  
የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማድረግ ይገባል፡፡



تعمیر و ترمیم و نو سازی و بازنه سازی و تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی  
 ساختمانها و ابنیهها و بناها و سازهها و تجهیزات و ماشینها و وسایط نقلیه  
 و وسایل و اثاثیه و اموال و اعیان و اشیاء و سایر موارد

(1) تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی

(2) تعمیرات جزئی و بازنه سازی و تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی و تعمیرات جزئی  
 و سایر موارد

(3) در کارهای (س) و (1) و (2) و سایر

سایر موارد و تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی

تعمیرات جزئی و سایر موارد

تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی (الف) و تعمیرات جزئی و سایر موارد

(4) در کارهای (س) و (1) و (2) و سایر

سایر موارد

### تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی

23. (س) در کارهای 18 و سایر کارهای تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی

تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی و تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی  
 و سایر موارد

(1) تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی

تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی

(2) تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی

(3) تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی

تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی 13 و سایر کارهای

تعمیرات اساسی و ترمیم و نو سازی و تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی







خوابگاهها را در اختیار  
گرفته و به جهت  
محدود بودن بودجه

24. (ر) این موضوع به منظور  
تأمین خوابگاهها و  
تعمیر آنها در  
مناطق محروم و  
کمتر برخوردار،  
توسط وزارت معارف  
و آموزش عالی  
در نظر گرفته شده  
است.

(س) در این مورد (ر) و  
تعمیر آنها در  
مناطق محروم و  
کمتر برخوردار،  
توسط وزارت معارف  
و آموزش عالی  
در نظر گرفته شده  
است.

(س) در این مورد (ر) و  
تعمیر آنها در  
مناطق محروم و  
کمتر برخوردار،  
توسط وزارت معارف  
و آموزش عالی  
در نظر گرفته شده  
است.

(س) در این مورد (ر) و  
تعمیر آنها در  
مناطق محروم و  
کمتر برخوردار،  
توسط وزارت معارف  
و آموزش عالی  
در نظر گرفته شده  
است.

(ه) در این مورد (ر) و  
تعمیر آنها در  
مناطق محروم و  
کمتر برخوردار،  
توسط وزارت معارف  
و آموزش عالی  
در نظر گرفته شده  
است.





(س) اِسْوَئِجْ مَکَلَمَ تَرَلَا تَرَوُو خَوِيسْوَئِجْ جِسْوَئِجْ مِيسْ  
 هَجْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ، اِنَاَسْ جِسْوَئِجْ مِيسْ اِسْوَئِجْ مِيسْ  
 مَشْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ.

(ج) اِسْوَئِجْ مَکَلَمَ تَرَلَا تَرَوُو خَوِيسْوَئِجْ جِسْوَئِجْ مِيسْ  
 هَجْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ، اِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ تَرَلَا تَرَوُو مِيسْوَئِجْ مِيسْ  
 هَجْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ جِ دَوِئِجْ (س) اِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ  
 تَرَلَا تَرَوُو مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ.

(ه) اِسْوَئِجْ مَکَلَمَ تَرَلَا تَرَوُو خَوِيسْوَئِجْ جِسْوَئِجْ مِيسْ 23 وَسْ  
 دَوِئِجْ مِيسْوَئِجْ هَجْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ، جِ دَوِئِجْ  
 17 وَسْ دَوِئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ  
 دَوِئِجْ مِيسْوَئِجْ، جِ دَوِئِجْ (س) اِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ (4) وَسْ  
 مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ هَجْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ اِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ  
 دَوِئِجْ مِيسْوَئِجْ، مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ  
 دَوِئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ  
 اِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ.

26. (ا) جِ دَوِئِجْ 18 وَسْ دَوِئِجْ مِيسْوَئِجْ خَوِيسْوَئِجْ جِسْوَئِجْ مِيسْ  
 تَرَلَا تَرَوُو اِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ  
 جِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ تَرَلَا تَرَوُو اِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ  
 مَشْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ.

(س) جِ دَوِئِجْ (ا) اِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ  
 اِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ  
 مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ.

(1) اِسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ تَرَلَا تَرَوُو مِيسْوَئِجْ مِيسْوَئِجْ



وَأَمَّا فِي مَرْحَلَةِ التَّحْقِيقِ؛

(2) أَسْرَفُ التَّحْقِيقِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ كَثْرَةُ لَمَمَاتِهِ وَتَوَقُّفُ

رِسْمِيَّتِهِ زَمَانَهُ زَمَانَهُ لَمَمَاتِهِ لَمَمَاتِهِ لَمَمَاتِهِ

أَسْرَفُ التَّحْقِيقِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ؛

(3) أَسْرَفُ التَّحْقِيقِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ؛

(4) كَثْرَةُ لَمَمَاتِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

أَسْرَفُ التَّحْقِيقِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

بِزَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ؛

(5) أَسْرَفُ التَّحْقِيقِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

تَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

تَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ؛

(6) تَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

تَرْكُ زَمَانِهِ؛

(7) وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

أَسْرَفُ التَّحْقِيقِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ؛

(8) تَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

أَسْرَفُ التَّحْقِيقِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ؛

(9) أَسْرَفُ التَّحْقِيقِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

تَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

أَسْرَفُ التَّحْقِيقِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ؛

(10) فَحَيْثُ تَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

تَرْكُ زَمَانِهِ؛

(11) فَحَيْثُ تَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ

تَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ وَتَرْكُ زَمَانِهِ







29. **دین و مروت و تقویٰ و قنوت**  
**قرآن مجید میں اللہ کے نام سے شروع ہونے والے**  
**ہر کلمے کی**

(1) اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے اور اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے۔

(2) اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے اور اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے۔

30. **دین و مروت و تقویٰ و قنوت**

(1) اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے اور اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے۔

(1) اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے اور اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے۔

(2) اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے اور اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے۔

(3) اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے اور اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے۔

(4) اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے اور اللہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر کلمے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے۔













سجرتی و اہل سائنس و طب کے لیے سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں  
 ماسٹریکس اور ڈیپلومے کی تعلیم کے لیے سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں  
 ڈیپلومے کی تعلیم کے لیے سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں  
 35 ویں دفعہ کے تحت سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں  
 تعلیم کے لیے سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

تعمیراتی

35. ڈیپلومے اور اہل سائنس و طب کے لیے سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

تعمیراتی اور سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

(ا) ڈیپلومے کی 33 ویں دفعہ (ا) کی سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

تعمیراتی اور سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

ڈیپلومے کی 30% (ب) کی سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

تعمیراتی اور سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

(ب) ڈیپلومے کی 33 ویں دفعہ (ب) کی سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

تعمیراتی اور سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

100,000/- (تعمیراتی) اور 1,000,000/-

(تعمیراتی) اور 100,000/- (تعمیراتی) اور 1,000,000/-

(ب) ڈیپلومے کی 33 ویں دفعہ (ب) کی سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

تعمیراتی اور سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

100,000/- (تعمیراتی) اور 1,000,000/-

(تعمیراتی) اور 100,000/- (تعمیراتی) اور 1,000,000/-

تعمیراتی اور سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں

10% (تعمیراتی اور سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں)

تعمیراتی اور سائنس اور طبی سائنس کے شعبوں میں















